



سٹی آف برامپٹن کے 2022 کے لیے گلیوں کی صفائی کے پروگرام کا آغاز ہو گیا ہے

برامپٹن، آن (11 مئی 2022) – سٹی آف برامپٹن نے اپنا 2022 کا سٹریٹ سویپنگ پروگرام شروع کر دیا ہے۔ رہائشی گلیوں پر صفائی کا کام شروع ہونے سے پہلے صنعتی اور آرٹیریل سٹریٹس پر کام کا آغاز ہو گا۔

موسم بہار کے دوران گلیوں اور گٹروں کو صاف رکھنے کے لیے شہر کی سڑکوں سے ریت اور ملبہ اُٹھایا جاتا ہے۔ یہ کام طوفانی پانی کے گٹروں کو ملبے کی وجہ سے بند ہونے سے بچاتا ہے اور ڈرائیوروں اور پیدل چلنے والوں کے لیے سڑکوں کو محفوظ اور صاف رکھتا ہے۔ موسم بہار کی صفائی کے پروگرام میں درج ذیل شامل ہے:

- شہر کی ملکیتی ایسی تمام سڑکیں جن کی بالائی تہ اسفالت سے بنی ہوئی ہوتی ہے، بشمول پل، کیچ بیسن اور گٹرز کی صفائی
- سخت سطحوں کے حامل بولیورڈز اور میڈینز کی صفائی
- موسم سرما کے دوران سٹی کی جانب سے ہل چلائی جانے والی سائیڈ واکس اور واک ویز
- سٹی آف برامپٹن کے تفریحی مراکز اور دیگر سہولت گاہوں کی پارکنگ کی جگہوں کی صفائی
- مضافاتی علاقوں کی بغیر رکاوٹ والی سڑکوں کو ضرورت کے مطابق دھویا اور/یا صاف کیا جائے گا
- سائیڈ واکس کی صفائی
- نمک کے ڈھیلوں اور برف کی ہاڑ کو ہٹانا
- بولیورڈز کی مشینی صفائی
- سبزہ زاروں کی مرمت
- سٹی کے پارکس ڈیپارٹمنٹ کی شراکت سے کچرہ اٹھانے کا کام

موسم بہار کے سویپ پروگرام کے دوران، شہریوں کو درج ذیل یاددہانیاں کرائی جاتی ہیں:

- پیر تا جمعہ، صبح 7 سے شام 4 بجے تک رہائشی علاقوں کی سڑکوں پر گاڑیاں پارک نہ کریں
- ڈرائیو ویز پر کھڑی گاڑیوں کا کوئی بھی حصہ سڑکوں پر نہیں آنا چاہیے
- کلیکشن کے دنوں کے دوران کچرا دان اور ری سائیکلنگ کے ڈبے سڑکوں سے دور رکھیں
- باسکٹ بال اور ہاکی کے نیٹس کو سڑکوں سے دور اور پکڈنٹیوں سے کافی فاصلے پر رکھیں
- براہ کرم تعاون کریں۔ سڑکوں کی صفائی کے دوران، تھوڑا بہت شور شرابہ اور گرد و غبار بھی ہو سکتا ہے
- براہ کرم صبر سے کام لیں، کیونکہ بارشوں اور ٹھنڈ کے دوران گلیاں صاف کرنے والا عملہ اپنا کام ٹھیک طور پر نہیں کر سکا۔
- صفائی کا پروگرام جاری رکھنے کے لیے درجہ حرارت مستقل طور پر صفر سے زیادہ ہونا چاہیے

سپرنگ سویپ پروگرام کے بارے میں مزید جاننے کے لیے اور سپرنگ سٹریٹ سویپنگ میپ کے لیے Brampton.ca پر جائیں۔